

Smitte / انقطاع باہمی تعلق کے عمل کی ڈریسنگ کرنے والی ایپ کو کیسے استعمال کریں



مذکورہ ایپ کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں اور کیسے اس کا استعمال شروع کریں

1. Smitte / سٹاپ ایپ کو ایپل اسٹور یا گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ کا انگریزی اور ڈینش ورژن بھی دستیاب ہے۔
2. جب آپ پہلی مرتبہ اس ایپ کو کھولیں گے تو آپ کو لازمی طور پر ان تمام دیگر ایپ صارفین کی معلومات قبول کرنا ہوں گی جن کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق رہا ہو اور یہ آپ کے موبائل میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ رضامندی سے متعلقہ فارم انگریزی اور ڈینش زبان میں دستیاب ہے۔
3. آپ کو یہ بھی قبول کرنا ہوگا کہ یہ ایپ COVID-19 کی تشہیری لاگنگ کے لیے گوگل اور ایپل کی ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے۔
4. اب آپ کا فون دوسرے ان ایپ صارفین کے ساتھ رجسٹر ہوگا جن کے ساتھ آپ قریبی رابطے میں رہ چکے ہوں، بغیر اس استطاعت کے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ وہ کون ہیں۔ یہ ایپ پس منظر میں کام کرتی ہے لہذا آپ کے لیے سکرین کو فعال حالت میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔

اگر آپ کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ جاتا ہے تو دوسروں کو کیسے مطلع کیا جائے

1. ایپ کی مین سکرین پر 'Positive test result?' (کیا آپ کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے؟) کا بٹن دبائیں، اور اس کے بعد آپ کو NemID کے ذریعے سائن ان کرنے کو کہا جائے گا۔
2. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آیا آپ میں COVID-19 کی علامات ظاہر ہوئی ہیں اور ایسا کب سے ہوا ہے۔
3. پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آیا گزشتہ 14 دنوں میں آپ نے کسی دوسرے ملک کا سفر کیا ہے۔
4. آخر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آیا پچھلے 14 دنوں میں آپ اپنے فون کی جانب سے بھیجے گئے آئی ڈی کیز کسی دوسرے کے ساتھ شئیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہاں میں جواب دیتے ہیں تو جن افراد کے ساتھ آپ کا قریبی رابطہ رہا ہو انہیں ایپ کے ذریعے ایک پیغام مل جائے گا کہ ان کا COVID-19 سے متاثرہ کسی شخص کے ساتھ قریبی رابطہ رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ انہیں بھی مذکورہ انفیکشن لگ چکی ہو۔

اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں رہ چکے ہیں جس کا کورونا وائرس ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی اطلاع مل جائی گی۔

1. اگر آپ کا اس ایپ کے کسی ایسے صارف کے ساتھ قریبی رابطہ رہ چکا ہے جس کا کورونا وائرس ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آ جاتا ہے اور اس نے یہ معلومات اس ایپ کے دیگر صارفین کے ساتھ شئیر کی ہیں تو آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی۔
2. قریبی رابطہ سے مراد ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ انفیکشن کے شکار کسی شخص کے ساتھ تقریباً 1 میٹر سے کم فاصلے پر 15 منٹ سے زیادہ عرصہ کے لیے ایک ایسے وقت میں ان کے قرب و جوار میں رہ چکے ہیں جس کے دوران مذکورہ شخص متوقع طور پر انفیکشن کا شکار رہا/رہی ہے۔
3. جیسا کہ ممکنہ طور پر آپ بھی انفیکشن زدہ ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کو ہدایات دی جائیں گی کہ آپ حکام کی سفارشات پر عمل پیرا ہوں جس میں ٹیسٹ کرانا بھی شامل ہے۔
4. سفارشات میں شامل ہے کہ خود کو الگ تھلگ رکھیں، حفظان صحت کے اصولوں اور صفائی کا خاص خیال کریں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ میں COVID-19 کی علامات تو ظاہر نہیں ہو رہیں۔

